

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
------------------	----------------------	-----------------

2nd Month, 3rd Week, 5th Day | Syllabus: Unit#4: Biotechnology Products + Insulin

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)
درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرة لگائیں۔

1. The genetic material of organisms can be changed by:

جانداروں کا وراثتی مادہ تبدیل کیا جاسکتا ہے:

(a) Addition of gene	جین داخل کر کے	(b) Removal of gene	جین کو کم کر کے
(c) Modification of gene	جین کو تبدیل کر کے	(d) All of these	یہ تمام

2. Which process is used in plants against disease?

کون سائل پودوں میں بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے؟

(a) Bioinformation	بائیونیکنالوجی	(b) Biotechnology	بائیوٹکنالوجی
(c) Microbiology	ماکرو بیولوچی	(d) Zoology	ذووالوچی

3. Genetically modified organism (GMOs) are used to prepare useful products:

وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار (جی ایم او زی) کو کار آمد پروڈکٹس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے:

(a) Glucose	گلوکوز	(b) Protein	پروٹین	(c) Starch	شارچ	(d) Insulin	انسوئین
-------------	--------	-------------	--------	------------	------	-------------	---------

4. Insulin is an animal _____.

(a) Gene	جین	(b) Protein	پروٹین	(c) Antigen	ایجنیجن	(d) Glucose	گلوکوز
----------	-----	-------------	--------	-------------	---------	-------------	--------

5. Insulin is produced by: _____ سے پیدا ہوتی ہے:

(a) Liver	جگر	(b) Stomach	معدہ	(c) Pancreas	پانکریز	(d) Lungs	پیشہ چڑے
-----------	-----	-------------	------	--------------	---------	-----------	----------

6. Genetic engineers produce insulin by inserting its gene in:

جینیک انجینئرنگ میں اس کا جین داخل کر کے انسوئین بناتے ہیں:

(a) Algae	بیکٹیریا	(b) Fungi	فجائی	(c) Virus	وائرس	(d) Bacteria	بیکٹیریا یا
-----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------	-------------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

(i) Write down the use of microorganisms.

ماکرو آرگنائزمز کا استعمال کھیس۔

(ii) Define biotechnology.

بائیوٹکنالوجی کی تعریف کریں۔

Q.No.3. Write long answer. (3)

تفصیلی جواب کھیس۔

(i) Why do scientists use bacteria in genetic engineering?

سائنسدان جینیک انجینئرنگ میں بیکٹیریا کیوں استعمال کرتے ہیں؟

Time: 10 Minutes	Paper G. Science 8th	Total Marks: 10
------------------	----------------------	-----------------

2nd Month, 3rd Week, 5th Day | Syllabus: Unit#4: Biotechnology Products + Insulin

Q.No.1 Encircle the correct answer from the following choices. (0.5×6=3)
درج ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور اس کے گرد دائرة لگائیں۔

1. The genetic material of organisms can be changed by:

جانداروں کا وراثتی مادہ تبدیل کیا جاسکتا ہے:

(a) Addition of gene	جین داخل کر کے	(b) Removal of gene	جین کو کم کر کے
(c) Modification of gene	جین کو تبدیل کر کے	(d) All of these	یہ تمام

2. Which process is used in plants against disease?

کون سائل پودوں میں بیماری کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے؟

(a) Bioinformation	بائیونیکنالوجی	(b) Biotechnology	بائیوٹکنالوجی
(c) Microbiology	ماکرو بیولوچی	(d) Zoology	ذووالوچی

3. Genetically modified organism (GMOs) are used to prepare useful products:

وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار (جی ایم او زی) کو کار آمد پروڈکٹس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے:

(a) Glucose	گلوکوز	(b) Protein	پروٹین	(c) Starch	شارچ	(d) Insulin	انسوئین
-------------	--------	-------------	--------	------------	------	-------------	---------

4. Insulin is an animal _____.

(a) Gene	جین	(b) Protein	پروٹین	(c) Antigen	ایجنیجن	(d) Glucose	گلوکوز
----------	-----	-------------	--------	-------------	---------	-------------	--------

5. Insulin is produced by: _____ سے پیدا ہوتی ہے:

(a) Liver	جگر	(b) Stomach	معدہ	(c) Pancreas	پانکریز	(d) Lungs	پیشہ چڑے
-----------	-----	-------------	------	--------------	---------	-----------	----------

6. Genetic engineers produce insulin by inserting its gene in:

جینیک انجینئرنگ میں اس کا جین داخل کر کے انسوئین بناتے ہیں:

(a) Algae	بیکٹیریا	(b) Fungi	فجائی	(c) Virus	وائرس	(d) Bacteria	بیکٹیریا یا
-----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------	-------------

Q.No.2. Write the short answers. (2 × 2 = 4)

(i) Write down the use of microorganisms.

ماکرو آرگنائزمز کا استعمال کھیس۔

(ii) Define biotechnology.

بائیوٹکنالوجی کی تعریف کریں۔

Q.No.3. Write long answer. (3)

(i) Why do scientists use bacteria in genetic engineering?

سائنسدان جینیک انجینئرنگ میں بیکٹیریا کیوں استعمال کرتے ہیں؟